



”نہ چھوت لگنا اور نہ بدشگونی، نہ الو کی نحوست اور نہ ماہ صفر کی تم کوڑھ کے مریض سے اسی طرح بھاگو، جس طرح شیر سے بھاگتے ہو“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: ”نہ چھوت لگنا اور نہ بدشگونی، نہ الو کی نحوست اور نہ ماہ صفر کی تم کوڑھ کے مریض سے اسی طرح بھاگو، جس طرح شیر سے بھاگتے ہو“
[صحیح] [متفق علیہ]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت کی کچھ چیزوں کا ذکر، ان سے خبردار رکھنے اور بے بتانہ کے لیے فرمایا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کچھ بھی اس کے فیصلہ اور تقدیر سے ہٹ کر نہیں ہوتا اور وہ چیزیں درج ذیل ہیں: 1- دور جاہلیت کے لوگ سمجھتے تھے کہ مرض بذات خود متعدی ہوا کرتی ہے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کوئی بیماری طبعی طور پر ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل نہیں ہوتی اس کائنات کا تصرف اللہ کے ہاتھ میں ہے وہی بیماری اتارتا اور اٹھاتا ہے یہ سب اس کے ارادے اور فیصلے کے مطابق ہوا کرتا ہے 2- دور جاہلیت کے لوگ جب سفر یا تجارت کے ارادے سے نکلتے، تو کسی پرندے کو بھاگاتے اور اڑ کر دائیں طرف جاتا، تو خوش ہو جاتے لیکن اگر بائیں طرف جاتا، تو برا شگون لیتے اور لوٹ جاتے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پرندے اڑا کر برا شگون لینے سے منع فرمایا اور بتایا کہ یہ ایک غلط عقیدہ ہے 3- دور جاہلیت کے لوگ کہتے تھے: کسی گھر پر الو بیٹھ جائے، تو اہل خانہ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح برا شگون لینے سے منع فرمایا 4- آپ نے صفر مہینے سے برا شگون لینے سے منع فرمایا صفر قمری سال کا دوسرا مہینہ ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ صفر ایک کیڑا ہے، جو جانور یا انسان کے پیٹ میں پیدا ہو جاتا ہے عربوں کا عقیدہ تھا کہ یہ خارش کی بیماری سے بھی زیادہ متعدی بیماری ہے چنانچہ آپ نے اس عقیدے کی نفی کر دی 5- آپ نے کوڑھ کے مرض کے شکار انسان سے اسی طرح بھاگنے کا حکم دیا ہے، جس طرح شیر سے بھاگا جاتا ہے دراصل یہ حکم اپنے لیے احتیاط، طلب عافیت اور اللہ کے حکم کرنے کے اسباب پر عمل کرنے کے قبیل سے ہے کوڑھ ایک بیماری ہے، جس کا شکار ہونے والے انسان کے جسم کے اعضا گلنے لگتے ہیں

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3407>